



رسول اللہ ﷺ کے ازواجِ مطہرات کے پاس رخصت کی باری میں بعض کو بعض پر فضیلت نہیں دیتے تھے ایسا دن کم ہی گزرتا تھا کہ آپ ﷺ سب کے پاس نہ آتے ہوں اور بجز جماع کے ہر ایک سے قریب ہوئے بغیر اپنی اس بیوی کے پاس چلا جاتا اور شب باشی کرتے ہوں، جس کی باری ہوتی ہے

عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ”میرے بھانجے! رسول اللہ ﷺ کے ازواجِ مطہرات کے پاس رخصت کی باری میں بعض کو بعض پر فضیلت نہیں دیتے تھے ایسا دن کم ہی گزرتا تھا کہ آپ ﷺ سب کے پاس نہ آتے ہوں اور بجز جماع کے ہر ایک سے قریب ہوئے بغیر اپنی اس بیوی کے پاس چلا جاتا اور شب باشی کرتے ہوں، جس کی باری ہوتی ہے“، اور کہتی ہیں کہ جب سودہ بنت زمعہ (رضی اللہ عنہا) عمر رسیدہ ہو گئیں اور انہیں اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ انہیں الگ کر دیں گے، تو کہنے لگیں: اللہ کے رسول! میری باری عائشہ کے لیے رہے گی چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی یہ بات قبول فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ہم کہنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں یا اسی جیسی اور چیزوں کے سلسلہ میں آیت کریمہ: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا﴾ اور اگر عورت کو اپنے شوہر کی بد مزاجی کا خوف ہو“ (سورۃ النساء: ۱۲۸) نازل فرمائی۔

[حَسَنٌ] [اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے] - [اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

اس حدیث میں آپ ﷺ کا اپنی بیویوں کے مابین باری سے متعلق عدل و انصاف کا بیان ہے، اس طرح کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تقریباً ہر روز آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے دلوں کی طمانیت کے لیے جماع کے سوا ہر طرح کی ملاطفت و مداعبت فرماتے تھے، پھر جس کے یہاں رات گزارنی ہوتی وہاں جاتے جب سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئیں، تو انہیں خوف دامن گیر ہوا کہ نبی ﷺ انہیں الگ کر دیں گے انہوں نے آپ کی زوجیت میں باقی رہنا اور اس شرف و فضل سے سرفراز رہنا چاہا اور یہ شرف و فضل تمام مومنین کی ماں اور سید المرسلین کی بیوی ہونا ہے، اس لیے انہوں نے کہا: میں اپنی باری عائشہ کو بے کرتی ہوں اور نبی ﷺ اسے قبول فرمایا پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ اور اگر عورت کو اپنے شوہر کی بد مزاجی اور بے پروائی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں“ ذکر کیا کہ یہ اسی حالت یا اسی طرح کی چیزوں کے لیے نازل ہوئی ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

